



## علاقائی ویزا

### کووڈ-19 کی تشخیص اور علاج

اگرچہ آپ کے پاس ویزا نہ ہو، یا آپ کو اپنے ویزا کی حیثیت یقینی طور پر معلوم نہ ہو، پھر بھی آپ کو صحت عامہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو، طبی امداد حاصل کریں اور کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروائیں۔ ریاستی اور علاقائی حکومتیں کووڈ-19 کی تشخیص اور علاج مفت میں فراہم کر رہے ہیں۔

• [آسٹریلوی دار الحکومت علاقہ](#)

• [نیو ساؤتھ ویلز](#)

• [شمالی علاقہ جات](#)

• [کوئینزلینڈ](#)

• [جنوبی آسٹریلیا](#)

• [تسمانیہ](#)

• [وکتوریہ](#)

• [مغربی آسٹریلیا](#)

### میرے پاس ایک علاقائی (عارضی) ہنر مند ویزا ہے (ذیلی کلاس 489 ، 491 اور 494)

ایسے ہنر مند ملازمین جو علاقائی آسٹریلیا میں رہنا اور کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لئے یہ ویزا مستقل رہائش کے لئے ممکنہ موقع فراہم کرنے والے عارضی ویزا ہیں۔

یہ ویزا مقامی معیشتوں کے تعاون کے لئے ہنر مند مہاجروں تک رسائی حاصل کرنے میں مقامی کمیونٹیز اور کاروباروں کی مدد کرتا، اور مہاجرین اور ان کے اہل خانہ کو مقامی کمیونٹیز میں بسنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

### مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے ویزا حاملین

اگر آپ اپنی مدد کرنے سے قاصر ہیں تو، آپ کو اپنے وطن واپس جانے کا انتظام کرنا چاہئے۔

اگر آپ اپنے موجودہ رہائشی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہیں تو، آپ 2019-20 مالی سال میں اپنے آسٹریلیائی سپر اینڈوٹیشن بلا ٹیکس سے \$10,000 تک کی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔

براہ کرم دیکھیں [سپر اینڈوٹیشن تک جلد رسائی کے بارے میں آسٹریلوی ٹیکسشن آفس کا ویب پیج](#)